



# شیڈول آف چارجز

جنوری 2016 تا جون 2016

## بیرونی کرنسی اکاؤنٹس اور ری میٹیننس

- 1 ادائیگی
- 1 وصولی
- 1 کلیکشن اور کلیئرنگ
- 1 متفرق چارجز

## اندرونی ملک بینکنگ

- 2 ری میٹیننس
- 3 آن لائن، کلیئرنگ اور کلیکشن ٹرانزیکشنز
- 3 متفرق چارجز

## ویزا ڈی بیٹ کارڈ

- 4 کیش نکالنا
- 4 بیلنس کی معلومات
- 4 پوائنٹ آف سیل (POS) ٹرانزیکشنز
- 4 متفرق چارجز

## لاکرز

- 5 پروڈکٹ کی بنیاد پر چارجز اور چھوٹ
- 5 ایمان ٹرم ڈیپازٹ کی قبل از وقت انکیشمنٹ

## ٹریڈ سروسز

- 5 درآمدات
- 7 برآمدات
- 8 ان لینڈ بلز
- 8 گارنٹیز
- 9 فنانس/ایڈوانسز

## اسٹاف کے لیے اسٹنڈ (مستقل اور کنٹرکچرل)

## نوٹس

## بیرونی کرنسی اکاؤنٹس اور ریٹینسز

### ادائیگی

|                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 20 امریکی ڈالر بشمول سوئفٹ یا دیگر بیرونی کرنسیز میں مساوی رقم | بیرونی کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے بیرونی ریٹینسز                       |
| 20 امریکی ڈالر یا دیگر بیرونی کرنسیز میں مساوی رقم             | بیرونی کرنسی ڈیمانڈ رافٹ (FDD) کا اجراء                           |
| ریٹینس چارجز کے علاوہ 0.5% اضافی چارجز                         | بیرونی کرنسی اکاؤنٹ میں کیش جمع کروانے کے ایک ہفتے کے اندر ریٹینس |
| 15 امریکی ڈالر بشمول پونج / سوئفٹ (اگر ہوتو)                   | ریٹینس / بیرونی کرنسی ڈیمانڈ رافٹ کی منسوخی کے چارجز              |
| 10 امریکی ڈالر یا دیگر بیرونی کرنسیز میں مساوی رقم             | ڈپلیکیٹ بیرونی کرنسی ڈیمانڈ رافٹ کا اجراء                         |

### وصولی

|                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| اگر حاصل ہمارے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جاتے ہیں تو بلا معاوضہ؛ بصورت دیگر PO بشمول کوریئر چارجز لاگو ہوں گے | ہوم ریٹینس (بشمول PRI) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### کلکیشن اور کلیئرنگ

|                                                                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1% کم از کم 5 امریکی ڈالر، زیادہ سے زیادہ 25 امریکی ڈالر یا دیگر بیرونی کرنسی میں مساوی رقم | کلکیشن کے لیے کلین آؤٹ ورڈ بلز (OBC) جمع کروانا                                          |
| کم از کم 5 امریکی ڈالر یا دیگر بیرونی کرنسی میں مساوی رقم بشمول سوئفٹ                         | کلکیشن کے لیے ان ورڈ بلز (IBC)                                                           |
| 15 امریکی ڈالر                                                                                | امریکی ڈالر کی اوکل کرنسی میں آؤٹ ورڈ کلیئرنگ مقامی ڈالر کلیئرنگ میں چیک ریٹرن کے چارجز: |
| (a) 10 امریکی ڈالر                                                                            | (a) ان ورڈ کلیئرنگ                                                                       |
| (b) 5 امریکی ڈالر                                                                             | (b) آؤٹ ورڈ کلیئرنگ                                                                      |
| 10 امریکی ڈالر                                                                                | چیک کے لیے اسٹاپ پیمنٹ                                                                   |

### متفرق چارجز

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 200 روپے فی آنیٹم                              | کارکردگی، بیلنس اور مینٹیننس وغیرہ کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء |
| 10 روپے فی چیک باہر بیرونی کرنسی میں مساوی رقم | چیک بک کا اجراء                                                  |
| 35 روپے فی آنیٹم                               | ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ                                       |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>بیرونی کرنسی اکاؤنٹس میں کیش بینڈلنگ چارجز</p> <p>بیرونی کرنسی اکاؤنٹس میں مستقل ہدایات کے چارجز</p> <p>بیرونی سوئفٹ چارجز</p> <p>خط و کتابت کے چارجز (اگر ہوں)</p> <p>پوسٹنج اور کوریئر (اگر ہوں)</p> | <p>رقم کا 0.1% - زیادہ سے زیادہ 100 امریکی ڈالر یا دیگر بیرونی کرنسیز میں مساوی رقم - پہلے ڈپازٹ پر چھوٹ</p> <p>15 امریکی ڈالر فی ٹرانزیکشن یا دیگر بیرونی کرنسیز میں مساوی رقم</p> <p>فل 1200 روپے یا 20 امریکی ڈالر</p> <p>شارٹ 600 روپے یا 15 امریکی ڈالر</p> <p>یا دیگر بیرونی کرنسیز میں مساوی رقم</p> <p>بمطابق اصل لاگت وصول کیے جائیں گے</p> <p>بمطابق اصل لاگت وصول کیے جائیں گے</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## اندرون ملک بینکنگ

ریٹینسز

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>پے آرڈر کا اجراء:</p> <p>(a) ایمان کرنٹ</p> <p>(b) ایمان سیونگز</p> <p>(c) ایمان انہانسڈ سیونگز</p> <p>(d) ایمان پریمیم سیونگز</p> <p>(e) اسپیشل سیونگز</p> <p>تعلیمی ادارے، HEC/بورڈ وغیرہ کو طلباء کی فیس/واجبات کی ادائیگی کے لیے پے آرڈر کریڈٹ منڈیٹ بینکوں کی برانچوں کے لیے ڈرا کیے گئے ڈیمانڈ ڈرافٹس کا اجراء</p> <p>(a) 100,000 روپے تک</p> <p>(b) 100,000 روپے سے زائد</p> <p>PO/DD کی اسٹاپ پیمنٹ</p> <p>PO/DD کی منسوخی</p> | <p>(a) 10 روپے</p> <p>(b) 100 روپے</p> <p>(c) 150 روپے</p> <p>(d) 200 روپے</p> <p>(e) 300 روپے</p> <p>فیس اور واجبات کا 0.50% یا 25 روپے فی انسٹرومنٹ، جو بھی کم ہو</p> <p>(a) 0.2% یا کم از کم 200 روپے</p> <p>(b) 0.1% یا کم از کم 500 روپے</p> <p>500 روپے بشمول کوریئر چارجز (اگر ہوں)</p> <p>500 روپے</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## آن لائن، کلیئرنگ اور کلیکشن ٹرانزیکشنز

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| بلا معاوضہ              | شہر کے اندر کیش یا چیک کا آن لائن ڈپازٹ اور وصولی |
| (a) بلا معاوضہ          | انٹرنیٹ آن لائن کیش/چیک:                          |
| (b) بلا معاوضہ          | (a) ڈپازٹ                                         |
| کرنٹ اکاؤنٹ 300 روپے    | (b) وصولی                                         |
| سیونگزر اکاؤنٹ 500 روپے | اسی روز کلیئرنگ کے چارجز                          |
|                         | غیر ادا شدہ چیک کی واپسی:                         |
| (a) 500 روپے            | (a) ان ورڈ کلیئرنگ                                |
| (b) بلا معاوضہ          | (b) آؤٹ ورڈ کلیئرنگ                               |
| 150 روپے                | انٹرنیٹ آؤٹ ورڈ کلیئرنگ                           |
| 200 روپے فلیٹ           | کلیکشن کے لیے آؤٹ ورڈ بلز                         |
|                         | (جہاں NIFT دستیاب نہیں)                           |

## متفرق چارجز

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                             | چیک بک کا اجراء:                                |
| (a) 2 روپے فی چیک                           | (a) ایمان کرنٹ اکاؤنٹ                           |
| (b) 4 روپے فی چیک                           | (b) ایمان سیونگزر                               |
| (c) 5 روپے فی چیک                           | (c) ایمان انہانسڈ اور پریمیم سیونگزر            |
| (d) 10 روپے فی چیک                          | (d) آپیشل سیونگزر                               |
| 500 روپے فی ہدایت                           | چیکس کی اسٹاپ پیمنٹ                             |
| 200 روپے فی ہدایت                           | مستقل ہدایات کے چارجز                           |
| 500 روپے                                    | اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز                        |
| کرنٹ اور ریگولر سیونگزر اکاؤنٹس مستثنیٰ ہیں |                                                 |
| 200 روپے فی سرٹیفکیٹ                        | بیلنس/اکاؤنٹ جاری رکھنے/ود ہولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ |
| 200 روپے فی سرٹیفکیٹ                        | کا اجراء                                        |
| 2,000 روپے سالانہ پیشگی (جنوری تا دسمبر)    | دیگر تمام سرٹیفکیٹس جن کا کہیں اور ذکر نہ ہو    |
|                                             | ہولڈمیل سروس                                    |
|                                             | پرانے ریکارڈ کا دوبارہ حصول:                    |
| (a) 250 روپے                                | (a) ایک سال کے اندر                             |
| (b) 500 روپے                                | (b) ایک سال سے زائد                             |
| 50 روپے ماہانہ                              | ایس ایم ایس الرٹس سروس                          |
| 35 روپے                                     | عارضی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء کے چارجز         |
| 100 روپے                                    | یاد دہانی کے خطوط کے سروس چارجز                 |

## ویزا ڈیٹ کارڈ

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 500 روپے | ویزا ڈیٹ کارڈ کے سالانہ چارجز    |
| 200 روپے | ویزا ڈیٹ کارڈ کی تبدیلی کے چارجز |

## کیش نکالنا

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| بلا معاوضہ                                       | اپنے بینک کے ATM سے      |
| 15 روپے                                          | کسی دوسرے بینک کے ATM سے |
| 300 روپے یا نکالی گئی رقم کا 1%، جو بھی زیادہ ہو | انٹرنیشنل ATM سے         |

## بیلنس کی معلومات

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| بلا معاوضہ | اپنے بینک اور 1 لنک ATM سے          |
| 5 روپے     | دوسرے بینک کے ATM سے (MNET نیٹ ورک) |
| 200 روپے   | انٹرنیشنل ATM سے                    |
| بلا معاوضہ | منی اسٹیٹمنٹ (اپنے بینک کے ATM سے)  |

## پوائنٹ آف سیل (POS) ٹرانزیکشنز

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| بلا معاوضہ                      | POS ٹرانزیکشنز (پاکستان میں) |
| 300 روپے یا 1%، جو بھی زیادہ ہو | POS ٹرانزیکشنز (انٹرنیشنل)   |

## متفرق چارجز

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 0.1% یا 50 روپے فی ٹرانزیکشن، جو بھی زیادہ ہو | IBFT چارجز                       |
| (a) 200 روپے                                  | دستاویزات کے دوبارہ حصول کی فیس: |
| (b) 1,000 روپے                                | (a) مقامی                        |
| NIL                                           | (b) بین الاقوامی                 |
|                                               | یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی          |

## لاکرز

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| پہلے سال: 5,500 روپے        | چھوٹا لاکر                                |
| بعد ازاں: 2,000 روپے سالانہ |                                           |
| پہلے سال: 6,000 روپے        | درمیانہ لاکر                              |
| بعد ازاں: 3,000 روپے سالانہ |                                           |
| پہلے سال: 8,000 روپے        | بڑا لاکر                                  |
| بعد ازاں: 4,000 روپے سالانہ |                                           |
| 5,000 روپے تک               | لاکربریکنگ چارجز                          |
| لاگو نہیں                   | لیٹ فیس (چیریٹی فنڈ میں جمع کیے جائیں گے) |

## پروڈکٹ کی بنیاد پر چار جز اور چھوٹ

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ایمان سیونگز پریئم اور<br>اسپیشل سیونگ | دو بلا معاوضہ ڈیپٹ ٹرانزیکشنز روزانہ،<br>بقیہ ٹرانزیکشنز بحساب 5 روپے فی ٹرانزیکشن |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## ایمان ٹرم ڈپازٹ کی قبل از وقت انکیشمنٹ

قبل از وقت انکیشمنٹ کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر آخری تکمیل شدہ مدت کی بنیاد پر مکمل ایام کی شرح منافع کے تحت منافع حاصل کرے گا۔ تاہم یہ کم از کم ایک ماہ کی مدت کے لیے سرمایہ کاری سے مشروط ہے۔ ایک ماہ سے کم عرصے میں انکیشمنٹ کی صورت میں کوئی منافع قابل ادا نہ ہوگا، صرف اصل زر واپس کر دیا جائے گا۔

### ٹریڈ سروسز \*

درآمدات (لیٹر آف کریڈٹ/ پیشگی ادائیگیاں/ معاہدے/ وصولیاں/ اکاؤنٹ کھولنا)  
فلیٹ/ یکمشت پیشگی قابل ادا

|                                                                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC اوپننگ کمیشن<br>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)                           | پہلی سہ ماہی کے لیے 0.50% یا کچھ حصہ،<br>بقیہ ہر سہ ماہی کے لیے 0.25% یا کچھ حصہ،<br>کم از کم 1,000 روپے<br>1,000 روپے فی ٹرانزیکشن (فلیٹ) |
| LC ترمیمی کمیشن<br>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)                           | روپے کی قدر کا 0.10%،<br>کم از کم 1,200 روپے                                                                                               |
| امپورٹ بلز کی ریٹائرمنٹ بشمول LC پر کمیشن<br>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ) | 2,000 روپے (فلیٹ)،<br>بشمول اصل کمیونیکیشن چارجز                                                                                           |
| LC کی منسوخی<br>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)                              | (a) معاہدے کارجسٹریشن کمیشن۔<br>2,500 روپے (فلیٹ)                                                                                          |
| کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات<br>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)             |                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(b) معاہدے کا ترمیمی کمیشن۔</p> <p>1,500 روپے فی ترمیم</p> <p>(c) معاہدے کے عوض دستاویز کی وصولی،</p> <p>1,500 روپے فی دستاویز</p> <p>(d) ریٹائرمنٹ کمیشن بحساب روپے کی قدر کا</p> <p>0.10%، کم از کم 2,000 روپے</p> <p>0.10%، کم از کم 2,500 روپے</p> <p>اصل لاگت بشمول 2,000 روپے</p> <p>ہینڈلنگ چارجز</p> <p>USANCE بلز کی صورت میں بینک 0.2% ماہانہ</p> <p>USANCE چارجز میچورٹی ڈیٹ کے بعد LC کی</p> <p>ویلیڈیٹی سے ڈرا کیے گئے بلز پر وصول کر سکتا ہے۔ اگر</p> <p>USANCE لیٹر آف کریڈٹ کی مدت کے لیے کورڈ ہے</p> <p>اور اس کے لیے کمیشن ادا کیا جا چکا ہے تو 0.20% کی شرح</p> <p>تک اضافی کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا</p> <p>300 روپے (فلیٹ)</p> <p>100 امریکی ڈالر یا مساوی</p> <p>بشمول ٹیلیکس/سوئفٹ چارجز</p> <p>LC کی رقم کے ایک ملین تک:</p> <p>800 روپے (فلیٹ) فی اطلاق</p> <p>LC کی رقم کے ایک ملین سے زائد:</p> <p>1,000 روپے (فلیٹ) فی اطلاق</p> | <p>LC معاہدے کے بغیر بیرونی کرنسی DD/TT کے عوض</p> <p>درآمدی دستاویزات کی ہینڈلنگ</p> <p>کریڈٹ رپورٹ</p> <p>درآمدی بل کے تحت ڈرا کیے گئے USANCE بلز</p> <p>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)</p> <p>کلکیشن/معاہدے کے تحت غیر ادا شدہ درآمدی بلز کی</p> <p>واپسی (مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)</p> <p>اعتراضات کی فیس</p> <p>دوسرے بینک کو درآمد کنندہ کی درخواست پر LC کے تحت</p> <p>بیرونی ایکسچینج کی بنگ کے لیے سرٹیفکیٹ کا اجراء</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

نوٹس:

- انتظامیہ اپنی صوابدید پر کسٹمز کو رعایتی نرخ پیش کر سکتی ہے۔
- بینک اور کسٹمر کے مابین معاہدے کی صورت میں کسٹمر کو پیش کیے گئے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔



## برآمدات (لیٹر آف کریڈٹ/ وصولی/ پیشگی ادائیگی)

فلیٹ/ یکمشت، پیشگی قابل ادا

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a) ایڈوانسنگ - 1,500 روپے</p> <p>(b) ٹرامیم - 1,000 روپے</p> <p>(a) ایکسپورٹ LC کی ٹرانسفر - 1,500 روپے فی ٹرانسفر بشمول لاگو کمیونیکیشن چارجز</p> <p>(b) نان ریزینڈنٹ روپی اکاؤنٹ سے دوسرے بینکوں کو ادائیگی - کم از کم 1,000 روپے</p> <p>اگر محدود LC کے تحت دستاویز دیگر مقامی بینک کو نیگوسیشن کے لیے بھیجے گئے ہیں - 1,000 روپے</p> <p>(a) دستاویزی وصولی - 1,000 روپے فی وصولی</p> <p>(b) ڈیوٹی ڈرا بینک کلیمز کی بینڈنگ - 0.25%، کم از کم 500 روپے</p> <p>(c) برآمدی حاصل پر تبادلہ لکیشن - 0.15%</p> <p>500 روپے</p> <p>1,000 روپے</p> <p>100 روپے فی ٹرانزیکشن</p> <p>0.25%، کم از کم 500 روپے فی اطلاق</p> <p>اصل لاگت بشمول 1,000 روپے بینڈنگ چارجز</p> <p>1,500 روپے فی کیس</p> <p>1,500 روپے (فلیٹ)</p> <p>500 روپے (فلیٹ)</p> <p>1,000 روپے بشمول اصل کمیونیکیشن چارجز</p> <p>1,000 روپے (فلیٹ)</p> | <p>LC ایڈوانسنگ/ ٹرامیم</p> <p>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)</p> <p>ایکسپورٹ LC ٹرانسفر/ ادائیگی</p> <p>(مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)</p> <p>محدود LC (مقامی اور بیرونی کرنسی اکاؤنٹ)</p> <p>دستاویزی برآمدی وصولی (LC کے ہمراہ یا بغیر)</p> <p>ان لینڈ LC کے تحت غیر ادا شدہ دستاویزات کی واپسی</p> <p>NOC کا اجراء/ دستاویزات کا تبادلہ</p> <p>EDS</p> <p>سبسڈی کی درخواستوں کی بینڈنگ</p> <p>کریڈٹ رپورٹ چارجز</p> <p>R&amp;D کیسز کی بینڈنگ</p> <p>LC کے تصدیقی چارجز</p> <p>پیشگی ادائیگی کے عوض EPRC کے اجراء کے سروس چارجز</p> <p>دوسرے بینکوں کی لکیشن کے تحت پیش کیے گئے برآمدی بل کی منتقلی</p> <p>برآمدی دستاویزات کی بینڈنگ جن کے عوض پیشگی رقم وصول کی گئی</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC کے تحت حاصل کی تقرری<br>کلیرنگ کمیشن                                                                                                                                                                                                                                    | 500 روپے (فلیٹ)، واحد تقرری کے لیے<br>100 روپے (فلیٹ)<br>10 پیسہ فی 100 روپے یا (1 روپیہ فی ہزار) کم از کم<br>200 روپے (فلیٹ)، بمطابق SBP کے قواعد یا<br>وفاقی نظر ثانی شدہ ریٹس<br>250 روپے (فلیٹ)<br>500 روپے فی کیس<br>500 روپے فی کیس |
| کلیکشن کی بنیاد پر بھیجی گئی دستاویزات کے عوض سروس چارجز۔<br>جب پیمنٹ کو/پیشگی ادائیگی بینک کے بیرونی کرنسی<br>اکاؤنٹ میں پہلے سے حاصل کر لی گئی ہو<br>IERF اپیلی کیشن کی ہینڈلنگ<br>برآمدات کی کارکردگی کی تصدیق۔ EE فارم<br>IERS پارٹ 1 کے تحت تبادلے کے کیسز کی ہینڈلنگ |                                                                                                                                                                                                                                           |

### ان لینڈ بلز

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دستاویزی بلز (LC کے ہمراہ یا بغیر) پاکستان میں | (a) سائٹ بل (نیگوسیشن) کمیشن 0.30% (فلیٹ)،<br>ہر بل کے لیے کم از کم 500 روپے<br>(b) USANCE بل (نیگوسیشن) کمیشن<br>0.30% (فلیٹ)، ہر بل کے لیے<br>کم از کم 500 روپے<br>(c) دستاویزی کلیکشن (ان لینڈ) کمیشن 0.30% (فلیٹ)،<br>ہر کلیکشن کے لیے کمیشن 0.30% (فلیٹ)، کم از کم<br>1,500 روپے، محاصل کے اجراء پر وصول کیا جائے گا |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### گارنٹیز

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گارنٹی                                                                                                                                                      | (a) گارنٹی کا اجراء، 0.50% فی سہ ماہی یا حصہ، کم از کم<br>1,000 روپے سالانہ یا حصہ<br>(b) رقم یا ترمیم کی مدت میں اضافے کے علاوہ<br>1,500 روپے فی ترمیم<br>گارنٹی کا اجراء، 0.45% فی سہ ماہی یا حصہ، کم از کم<br>250 امریکی ڈالر سالانہ یا حصہ بشمول خط و کتابت کے<br>چار جز یا خط و کتابت کے بینک کے ساتھ معاہدے کے تحت<br>بمطابق اصل وصول کی جائے<br>1,000 روپے فلیٹ، بشمول اصل اخراجات جو کہ بینک کی<br>جانب سے عائد کیے گئے ہوں<br>2,000 روپے فلیٹ |
| بینک ٹو بینک گارنٹی کا اجراء                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قانونی فیس<br>بینیفٹری کی جانب سے کلیم کے سروس چارجز<br>ایگزیزٹبل اور شپنگ گارنٹیز کی تصدیق۔ بل آف لیڈنگ<br>کے عوض شپنگ کمپنیوں کو گارنٹیز جاری کی جائیں گی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\* بینک اور کسٹمر کے مابین معاہدے کی صورت میں کسٹمر کو پیش کیے گئے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔

|                                                                            |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پروسیسنگ فیس برائے فریش کریڈٹ پروپوزل/تجدید/انہاسمنٹ کے لیے وسط مدتی جائزے | ابتدائی/سالانہ جائزہ/وسط مدتی جائزہ (انہاسمنٹ کے لیے):                                                |
|                                                                            | مجموعی سہولیات کا %0.10/15,000 روپے (جو بھی زیادہ ہو) یا معاہدے کے مطابق، (اپ فرنٹ وصول کیے جائیں گے) |

نوٹ: موجودہ سہولتوں/کریڈٹ کی سہولت کے سالانہ انٹرنل جائزے کی صورت میں جن کی مدت ایک سال سے زائد ہو، فیس لاگو نہیں ہوگی۔

\* بینک اور کسٹمر کے مابین معاہدے کی صورت میں کسٹمر کو پیش کیے گئے چار جز مختلف ہو سکتے ہیں۔

## اسٹاف کے لیے استثنیٰ (مستقل اور کنٹرل کچنل)

### صرف اسٹاف اکاؤنٹ کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھنے پر اطلاق ہوگا

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| چیک بک کا اجراء                                 | بلا معاوضہ |
| پے آرڈر/ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء                   | بلا معاوضہ |
| انٹرسٹی اور آن لائن ٹرانزیکشنز                  | بلا معاوضہ |
| لوکل کلکیشن چارج                                | بلا معاوضہ |
| چیک ریٹرن چارج                                  | بلا معاوضہ |
| چیکس کی اسٹاپ پیمنٹ                             | بلا معاوضہ |
| سرٹیفیکیشن کا اجراء                             | بلا معاوضہ |
| PO/DD کی اسٹاپ پیمنٹ اور تنفیخ                  | بلا معاوضہ |
| ویزا ڈیبٹ کارڈ کے اجراء اور سالانہ فیس کے چارجز | بلا معاوضہ |
| IBFT چارجز                                      | بلا معاوضہ |
| یومیہ 2 سے زائد ڈیبٹ ٹرانزیکشنز پر              | بلا معاوضہ |
| پری پیئم/اسپیشل سیٹنگز چارجز                    | بلا معاوضہ |
| SMS الرٹس سروس                                  | بلا معاوضہ |

نوٹس:

- مندرجہ بالا ریٹس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کسٹمر کے اکاؤنٹ پر وقتاً فوقتاً لاگو ہونے والے ود ہولڈنگ ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، اسٹیمپ ڈیوٹی، صوبائی یا وفاقی ٹیکس، یا کوئی بھی دیگر اعلان کردہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔
- بزنس ہیڈ کی منظوری سے مختلف کیسز کی بنیاد پر چار جز مختلف ہو سکتے ہیں اور انہیں کم یا ختم بھی کیا جاسکتا ہے۔
- جو چار جز اس شیڈول آف چارجز میں کو نہیں کیے گئے، کسٹمر سے معاہدے کے تحت مختلف کیسز کی بنیاد پر الگ سے وصول کیے جائیں گے۔
- ایمان کرنٹ اور ریگولر سیونگز اکاؤنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے صراحت کردہ بنیادی بینکنگ اکاؤنٹ کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں۔
- سال کے دوران پیش کی جانے والی پروڈکٹس کے چارجز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کسٹمر دونوں کو فراہم کر دیئے جائیں گے۔



## برانچ نیٹ ورک

### ایبٹ آباد

پلاٹ نمبر 7838، بمقام ماسٹر روڈ منڈیاں، بالمقابل ڈائریکٹوریٹ اسٹینڈ، ایبٹ آباد کینٹ  
0992-385978-9

### فیصل آباد

مدینہ ٹاؤن برانچ، 10-C-Z-6، سوئن روڈ، مدینہ ٹاؤن  
041-8503411-4

### اسلام آباد

F-8 مرکز برانچ، پلاٹ نمبر C-18، کاغان روڈ، F-8 مرکز  
051-2287455-57، 051-2287451، 051-2287450

### کراچی

کلغٹن برانچ، شوروم 1، پلاٹ نمبر D-69، بلاک 7، کلغٹن  
021-35371841-2  
شاہراہ فیصل برانچ، 47-A، دارالامان ہاؤسنگ سوسائٹی، P.E.C.H.S، بلاک 7/8 شاہراہ فیصل  
021-34533106-9، 021-34521766

### لاہور

DHA، T بلاک برانچ، پلاٹ نمبر 88، سیکٹر CCA، فیز 2-C، DHA  
042-35748850، 042-35748849  
گلبرگ Q بلاک برانچ، پلاٹ نمبر Q-6، گلبرگ II  
042-35751536-7، 042-35752855

### مردان

پراپرٹی سروس نمبر 135/45، مال روڈ، صدر بازار، مردان کینٹ  
093-7867555

### کوئٹہ

خاصہ نمبر 63، واقع مین جناح روڈ  
081-2866201-3

### راولپنڈی

چکالہ برانچ، پلاٹ نمبر 46، کمرشل ایریا، چکالہ اسکیم III  
051-5766151-52، 051-5780987، 051-5766147

☎ 0800-EMAAN(36226)  
🌐 <http://emaan.silkbank.com.pk>